

ووٹنگ کے دن وقت بچانے کے لیے ووٹرز کی فہرست میں اپنا نام چیک کریں۔

برامپٹن، آن (7 ستمبر 2022) – سٹی آف برامپٹن اپنے تمام اہل ووٹرز سے گزارش کر رہا ہے کہ وہ ووٹرز کی فہرست میں اپنے نام کو چیک کریں۔ 2022 کے برامپٹن میونسپل اور اسکول بورڈ کے انتخابات میں ووٹ دینے کے لیے اہل ووٹرز کا نام ووٹرز کی فہرست میں موجود ہونا ضروری ہے۔

اس کا طریقہ بہت آسان ہے۔ [سٹی کی ویب سائٹ](#) پر جائیں، "کیا میں ووٹرز کی فہرست میں موجود ہوں؟ (Am I on the Voters' List) پر کلک کریں اور فہرست میں اپنا اندراج چیک کرنے کے لیے اپنا نام، تاریخ پیدائش اور پتہ درج کریں۔ آپ اپنی معلومات کی تصدیق یا اپ ڈیٹ آن لائن طور پر کر سکتے ہیں یا اگر آپ کا نام فہرست میں موجود نہیں ہے، تو شامل کرنے کے لیے رجسٹر بھی کر سکتے ہیں۔ آن لائن رجسٹریشن 15 اکتوبر کی شام 5 بجے تک دستیاب رہے گی۔

اہل رائے دہندگان سٹی ہال میں موجود سٹی کلرک کے دفتر میں جا کر بھی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آیا وہ ووٹرز کی فہرست میں شامل ہیں یا نہیں اور اگر ضرورت ہو، تو وہاں پر ووٹرز لسٹ فارم میں ترمیم کرنے کے لیے درخواست بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ ووٹر کسی بھی ایڈوانس ووٹنگ کے مقام پر یا ووٹنگ کے دن بھی فارم مکمل کر سکتے ہیں۔

اگر آپ کینیڈا کے شہری ہیں، ووٹنگ کے دن آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہے اور آپ برامپٹن میں رہائش پذیر ہیں (یا آپ یا آپ کی شریک حیات برامپٹن میں جائیداد کے مالک یا کرایہ دار ہیں)، تو آپ ووٹ دینے کے اہل ہیں۔

لنکس

- [چیک کریں کہ آیا آپ کا نام ووٹرز کی فہرست میں موجود ہے](#)
- [ووٹر کی اہلیت](#)
- [برامپٹن ووٹس 2022](#)

اقتباس

"چاہے آپ نے پچھلے انتخابات میں ووٹ دیا بھی ہو یا اگر آپ بروز پیر مورخہ 24 اکتوبر سے پہلے 18 سال کے ہو گئے ہوں، تو یہ چیک کرنا ضروری ہے کہ آپ ووٹرز کی فہرست میں شامل ہیں یا نہیں۔ ووٹروں کی تازہ ترین فہرست سے وقت کی بچت ہوتی ہے اور برامپٹن کے تمام ووٹرز کے لیے ووٹنگ کے عمل کو آسان بناتی ہے۔"

- پیٹر فے، سٹی کلرک اور ریٹرننگ آفیسر، سٹی آف برامپٹن

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

